

Gotham Health

NYC  
HEALTH+  
HOSPITALS

# سب کے لیے ٹیکہ کاری

## Moderna COVID-19 ویکسین

(18 برس اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے)

## Pfizer COVID-19 ویکسین

(6 ماہ سے 17 برس کی عمر کے درمیان کی عمر والوں کے لیے)

- + پہلی اور دوسری خوراکیں
- + ناقص مدافعتی نظام میں مبتلا افراد کے لیے ویکسین کے بنیادی سلسلے کی اضافی خوراکیں
- + افزائشی ٹیکوں میں جدید ترین دو گرتہ (ہائے ویلینٹ) افزائشی ٹیکے شامل ہیں

## یہاں پر تمام اہل افراد کے لیے دستیاب ہیں

COVID-19 کی وجہ سے، خود کو اور اپنے عزیز و اقربا کو بیمار پڑنے سے بچانا مسلسل اہم ہے۔

COVID-19 کی ویکسینیں محفوظ ہیں اور بیمار پڑنے، اسپتال میں داخل ہونے اور حتیٰ کہ موت کے خطرے کو کم کرنے میں انتہائی مؤثر ہیں۔

آپ COVID-19 کی ویکسین اپنے لیے بلا خرچ لگوا سکتے ہیں۔

اپنے لیے موزوں ویکسین کے بارے میں مزید معلوم کریں۔

کیو آر کوڈ سکین کریں یا 1-844-NYC-4NYC

(1-844-692-4692) پر کال کریں۔



## COVID-19 کی ویکسین

### بیشتر افراد اب COVID-19 کی ویکسین لگوانے کے اہل ہیں:

- + 6 ماہ سے 4 سال کی عمر کے درمیان کے بچے Pfizer-BioNTech طبعی اطفال کی دو خوراکیں (ایک دہائی طاقت کی) لگوا سکتے ہیں۔
- + 5 سے 11 سال کی عمر کے درمیان کے بچے Pfizer-BioNTech طبعی اطفال کی دو خوراکیں (ایک تہائی طاقت کی) لگوا سکتے ہیں۔
- + 12 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد Pfizer-BioNTech ویکسین کی دو خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔
- + 18 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد Moderna ویکسین کی دو خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔

### Pfizer اور Moderna ویکسین کے بنیادی سلسلے کی اضافی خوراکیں

mRNA ویکسین کے بنیادی سلسلے کی اضافی خوراکیوں کو ان افراد کے لیے ترجیح دی جاتی ہے، جن کا مدافعتی نظام کسی عارضے یا علاج معالجے کے باعث کمزور ہے۔ جن کو ذیابیطس، دل یا پھپھڑوں کی بیماریاں جیسے دیگر طبی عارضے ہیں، ان میں سے بیشتر افراد کے لیے بنیادی سلسلے کی اضافی خوراکیوں کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔

### COVID-19 کے افزائشی ٹیکے کی خوراک – Moderna اور Pfizer ویکسین لگوانے والوں کے لیے

5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان کے بچے، جنہوں نے پانچ ماہ سے زیادہ عرصہ پہلے اپنی ویکسین کے بنیادی سلسلے کے طور پر Pfizer کے ٹیکے لگوائے تھے، وہ صرف Pfizer ایک گرفتہ (مونووولینٹ) افزائشی ٹیکہ لگوانے کے اہل ہیں۔

12 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد کے لیے صرف جدید ترین دو گرفتہ (بائے ویلینٹ) افزائشی ٹیکہ لگوانے کی منظوری دی گئی ہے۔ 12 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد اب اصل ایک گرفتہ (مونووولینٹ) افزائشی ٹیکہ نہیں لگوا سکتے۔

12 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد کو اپنی COVID-19 کی ویکسین کے بنیادی سلسلے کے مکمل طور پر لگوانے یا آخری افزائشی ٹیکہ لگوانے کے کم از کم دو ماہ بعد جدید ترین دو گرفتہ (بائے ویلینٹ) افزائشی ٹیکہ لگوانا چاہیے۔

ویکسین شدہ افراد وہی افزائشی ٹیکہ لگوا سکتے ہیں جس ویکسین کا بنیادی سلسلہ یا پہلا افزائشی ٹیکہ انہوں نے لگوایا تھا، یا وہ ان کے بدلے دیگر دو اقسام کی ویکسین میں سے کوئی ایک لگوا سکتے ہیں۔